

*Send an email with the following subject line and body text to help inform New Yorkers about renewing their coverage.*

**Subject line:** تیار رہیں: صحت بیمہ میں اہم تبدیلیاں ہونے والی ہیں

**Preview text:** یقینی بنائیں کہ آپ کا پتہ اپ ٹو ڈیٹ ہو تاکہ آپ کو اپنا تجدید نامہ موصول ہو جائے۔

**Email body text:**

کیا آپ یا آپ کے فیملی ممبر کے پاس فی الحال Child Health Plus، New York State Medicaid یا Essential Plan کی معرفت صحت کوریج ہے؟ [2023 کے موسم بہار سے، ریاست نیو یارک ان پروگرامز کے اندراج یافتگان کے لیے اہلیت کے جائزے اور تجدیدات کا انعقاد دوبارہ شروع کر دے گی۔](#) اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے صحت بیمہ کی یا اپنے فیملی ممبران کے صحت بیمہ کی تجدید کرنے کی کارروائی کرنی پڑ سکتی ہے۔

جب آپ کے صحت بیمہ کی تجدید کرنے کا وقت ہوگا، تو اس وقت آپ کو NY State of Health کی جانب سے ایک خط یا تجدیدی پیکٹ موصول ہوگا اگر آپ اپنے کاؤنٹی کے سماجی سروسز کے مقامی محکمے یا New York City Human Resource's Administration کے ذریعے اندراج شدہ ہیں۔ اس خط/پیکٹ سے آپ کو یہ جاننے میں مدد ملے گی کہ آپ کو اپنی کوریج کی تجدید کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے اور جواب دینے کے لیے آپ کے پاس کتنا وقت موجود ہے۔ فوری طور پر ہدایات پر عمل کریں۔

اپنا پتہ اور رابطہ کی معلومات اپ ڈیٹ کرنے کو یقینی بنائیں تاکہ آپ اس اہم خط سے محروم نہ ہوں۔ اپنا پتہ اور رابطہ کی معلومات اپ ڈیٹ کرنے کے لیے، NY State of Health کو (TTY: 1-800-662-1220) (1-855-355-5777) پر کال کریں یا [nystateofhealth.ny.gov](http://nystateofhealth.ny.gov) پر اپنے اکاؤنٹ میں لاگ ان کریں۔ اگر آپ کا اندراج Medicaid میں [آپ کی کاؤنٹی کے Medicaid کے دفتر کے ذریعے یا نیو یارک سٹی کی ہیومن ریسورسز ایڈمنسٹریشن کے ذریعے ہوا ہے](#) تو اپنا پتہ اور رابطہ کی معلومات اپ ڈیٹ کرنے کے لیے اس دفتر سے رابطہ کریں۔

**مزید معلومات حاصل کریں**

- اگر آپ کا اندراج Medicaid، Child Health Plus یا Essential Plan میں NY State of Health کے ذریعے ہوا ہے تو آپ کو درپیش کسی بھی سوال کے ساتھ (TTY: 1-800-662-1220) (1-855-355-5777) پر کال کریں۔
- اگر آپ کا اندراج Medicaid میں [آپ کی کاؤنٹی کے Medicaid کے دفتر کے ذریعے یا نیو یارک سٹی کی ہیومن ریسورسز ایڈمنسٹریشن کے ذریعے ہوا ہے](#)، تو آپ کو درپیش کسی بھی سوال کے ساتھ اس دفتر سے رابطہ کریں۔
- مزید جاننے کے لیے <https://info.nystateofhealth.ny.gov/COVID-19-Changes> ملاحظہ کریں۔ نیو یارک مزید معلومات دستیاب ہونے پر یہ ویب صفحہ مستقل بنیادوں پر اپ ڈیٹ کرے گا۔